



سوال

نماز ظہر سے پہلے دو سنتیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا نماز ظہر سے پہلے دو سنت پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ثابت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین قبل الظہر" میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعت پڑھی ہیں، (صحیح البخاری: صحیح مسلم: 729، وترقیم دارالسلام: 1698، و مترجم مع تحریفات امین اوکاڑوی ج 1 ص 555)

اس روایت میں سجدتین کا لفظ ہے جس کا ترجمہ رکعتین ہے اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت (سنن الترمذی: 3423 وقال: "حسن صحیح") میں "فاذا قام من سجدتین رفع یدیه" سے مراد "من الرکتین" ہے "

نیز دیکھئے جزء رفع الیدین بخاری تحقیقی (ج 1 ص 32)

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ (توضیح الاحکام)

ج 1 ص 419

محدث فتویٰ